



تصمیم



Avgjørelse

- ✎ Ursula Nafula
- ✉ Vusi Malindi
- ☞ Marzieh Mohammadian Haghghi
- 💬 persisk / bokmål
- 🔊 nivå 2



دېکده ي من مُشكلات زیادی داشت. ما مَجبور بودیم که بَرای
بُرَدِن آب از پک لوله ڏار پک صَف طولانی بايستیم.


...

Landsbyen min hadde mange problemer. Vi stilte oss på en lang rekke for å hente vann fra én pumpe.

ما مُنتَظِرِ بَخْشِشٍ غَذَا أَزْ طَرَفِ دِيَگْرَان بُودِيم.

...

Vi ventet på mat som andre hadde gitt oss.



ما ڈر خانه ھاپمان را به خاطر ڈزدان زود ڦفل می گردیم.

...


Vi låste husene våre tidlig på grunn av tyver.



خیلی از بچه ها از مدرسه محروم می‌مانند.

...


Mange barn droppet ut av skolen.




دُخْتَرَانِ جَوَانِ بِهِ عُنْوَانِ پِيَشِّخَدْمَتْ دَرِ روْسْتَاهَيِ دِيَگَرِ كَارِ
مَى گَرَدَنَد.

...

Unge jenter jobbet som hushjelper i andre landsbyer.






پسaran جوان ڈر اطراف دھکدہ پرسه می زدند ڈر حالیکه
دیگران روی زمین های کشاورزی مردم کار میکرند.

...


Unge gutter drev rundt i landsbyen mens
andre jobbet på gården til folk.



وَقْتٍ كَهْ بَادْ مِيْ وَزِيدْ، كَاغَذَهَايِ باطِلَهْ روِيْ دَرْخَتَانْ وَ
حِصَارَهَا آويِزانْ مِيْ شُدَنَدْ.

...

Når vinden blåste, ble papirbiter hengende
fast på trær og gjerder.



گاهی اوقات به خاطر خردشی شیشه هایی که از روی بی احتیاطی روی زمین ریخته شده بود دست و پای مردم دُچار بُریدگی می شد.


...

Folk skar seg på glasskår som folk hadde slengt fra seg.

پک روز، آب لوله خشک شد و ظرفهای آب ما خالی ماند.

...

Så en dag tørket vannet i pumpa opp og beholderne våre ble tomme.



پَدَرَمْ بِهِ تَكْ تَكْ خَانَهُ هَا رَفَتْ وَ أَزْ مَرْدُمْ خَوَاسْتْ كَهْ دَرْ جَلِسَه
يِ دَهْكَدَه شِرْكَتْ كُنَنْدَ.

...

Faren min gikk fra hus til hus for å be folk
delta på et folkemøte.





مَرْدُم زِيرِيْك دِرَخْت بُرْرَگ جَمْع شُدَّنْد وَگُوش كَرَدَنْد.


...

Folk samlet seg under et stort tre og lyttet.

پَدَرَمْ اِيْسْتَادَ وَ گُفتْ: مَا نِيَازْ دَارِيمْ كَهْ بَا هَمْ كَارْ گُنِيمْ تَا
بِتَوَانِيمْ مُشَكَّلَاتِمانْ رَا حلْ گُنِيمْ.

...

Faren min reiste seg og sa: "Vi må
samarbeide for å løse problemene våre."





جوماي هشت ساله، روی پك گنده ي درخت نشسته بود و داد
زد: من مي توانم در نظافت گردن کمک گنم.

...


Åtteårige Juma, som satt på stammen til et tre, ropte: "Jeg kan hjelpe til med å samle søppel."



پک خائِم گفت: زَنها می توانند در کاشتن محصولات غذایی با من همراهی کنند.

...


En kvinne sa: "Kvinnene kan bli med meg og dyrke mat."



مَرِدِ دِيْگَرِ اِیسْتَادَ وَ گَفَتْ: مَرِدُهَا مَىْ تَوَانَدَ چَاهَ بَكَنَدْ.

...

En annen mann reiste seg og sa: "Mennene skal grave en brønn."



هَمْهَهْ مَا پِكْ صِدا فَرِياد زَدِيمْ: مَا بَايدِ زِنْدَگِيْمَان رَا تَغْيِيرَ دَهِيمْ.
أَزْ آن رُوز بَهْ بَعْد هَمِّيْگَيْ با هَمْ كَارْ كَرْدِيمْ تَا مُشْكَلَاتِمَان رَا حَلْ
كُنِيمْ.

...

Vi ropte alle sammen med én stemme: "Vi må forandre livene våre." Fra den dagen samarbeidet vi for å løse problemene våre.



Barnebøker for Norge

barneboker.no

تصمیم

Avgjørelse

Skrevet av: Ursula Nafula

Illustret av: Vusi Malindi

Oversatt av: Marzieh Mohammadian Haghghi (fa), Espen Stranger-Johannessen (nb)

Denne fortellingen kommer fra African Storybook (africanstorybook.org) og er videreforsidlet av Barnebøker for Norge (barneboker.no), som tilbyr barnebøker på mange språk som snakkes i Norge.

Dette verket er lisensiert under en Creative Commons
[Navngivelse 4.0 Internasjonal Lisens](#).